

3 اپریل، 2020
 عزیزی اہل خانہ:

گذشتہ ہفتے اسکول کی عمارتوں کو بند کرنے اور ریموٹ لرننگ میں منتقل ہونے سے، ہمارے 150,000 سے زائد عملے کے ساتھ شراکت داری میں، آپ سب نے، ہماری نئی حقیقت میں قدم رکھتے ہوئے عمدہ لچکداری اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک ساتھ مل کر ہم قوم کے سب سے بڑے عوامی تعلیمی نظام کو اس انداز میں تبدیل کر رہے ہیں جس کا تصور ہم نے چند ہفتے پہلے نہیں کیا تھا۔

اس پورے عمل کے دوران، ہم نے ہر فیصلے کو صحت، تحفظ اور ہمارے طلبا کو مسلسل تعلیم دینے کو ذہن میں رکھ کر کیا تھا۔ اس پورے عمل کے دوران، میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمیں ہماری تمام اسکولی برادریوں کے لیے لچک اور صبر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہو گی۔

نیو یارک کے تمام باشندوں کے لیے میل جول میں فاصلہ رکھنا (سوشل ڈسٹینسنگ) ایک نہایت اہم حقیقت ہونے کے ساتھ، ان اقدار کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے موسم بہار کے وقفے کو ایک نئے طریقے سے سرف کرنا لازمی ہے، اصل میں اس کا شیڈول جمعرات، 9 اپریل سے لے کر جمعہ، 17 اپریل 2020 تک تھا۔

نیو یارک کے تمام باشندوں کی صحت اور بہبود کے لیے شہر اور ریاست متفق ہیں کہ اسکولوں کے لیے گھر سے تعلیم دینا (ریموٹ لرننگ) کو جاری رکھنا لازمی ہے، بشمول ان ایام کے دوران جو گذشتہ طور پر وقفے کے لیے شیڈول کیے گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اسکول ان اوقات کے دوران بھی ریموٹ لرننگ کو جاری رکھیں گے جن کو اصل میں موسم بہار کے وقفے کے لیے شیڈول کیا گیا تھا۔

ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک کے کئی باشندے 9 اور 10 اپریل کو مذہبی تہوار کو منانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسے طلبا اور عملے کے کئی ممبران جو انفرادی طور پر تہوار کو منانا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ البتہ، ان ایام کو اسکول کے نظام کے لیے "بند ہونے" کے ایام تصور نہیں کیا جائے گا، اور ان طلبا کے لیے ریموٹ لرننگ جاری رہے گی جو تہوار نہیں منائیں گے۔

اس وقت کے دوران خاندانوں کے لیے ذیل میں اہم اضافی معلومات ہیں:

ریموٹ لرننگ

ہم جانتے ہیں موسم بہار کا وقفہ ہمارے معلمین اور طلبا، دونوں کے لیے آرام کرنے کا وقت ہے — اور ہم جانتے ہیں ہمارے طلبا اور معلمین تعلیم کے لیے نئے طریقوں کو اپنانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔

اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم اسکولوں کو ریموٹ لرننگ کے لیے ایسے وسائل کی پیشکش کریں گے جو 9-17 اپریل کے دوران تمام طلبا کے لیے روزانہ کے موضوعات اور بہتری کی سرگرمیوں پر توجہ دیں گے۔ یہ طلبا اور ان کے اساتذہ کو معنی خیز انداز میں مشغول رکھے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ اور دنیا بھر کے خیالات سے جوڑ کے رکھے گا — حتیٰ کہ ہم گھر پر سماجی میل جو میں فاصلہ رکھ رہے ہیں۔

وسائل میں "موضوع" کے دن (مثلاً بہبود، دنیا کی زبان، کمپیوٹر سائنس، کالج اور طرز معاش کی مستعدی) شامل ہوں گے اور یہاں شہر میں نایاب تعلیمی اور ثقافتی وسائل (مثلاً میوزیم، لائبریری اور ثقافتی اداروں) سے ورچولی انداز میں فائدہ اٹھایا جائے گا۔

ان سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات کا اشتراک اسکولوں کے ساتھ اگلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ریموٹ لرننگ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ خاندان آنے والے ہفتوں میں میل جول میں فاصلہ رکھنے کی پابندی کریں جو کہ وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے اور ہمارے ہمسایوں کو محفوظ رکھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔

علاقائی تعلیمی تقویٰ مراکز

علاقائی تعلیمی تقویٰ مراکز (RECs) سب سے پہلے مدد کرنے والے افراد (فرسٹ رسپانڈرز)، طبی نگہداشت فراہم کرنے والے اور شہر بھر میں دیگر اہم خدمات فراہم کرنے والے افراد کے بچوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔ زیادہ تر (REC)، 9-17 اپریل کے دوران کھلے ہوں گے۔

ہم ان خاندانوں کے ساتھ پیش قدمی کے ساتھ ابلاغ کرتے رہیں گے جن کو اس وقت کے دوران عارضی طور پر ایک مختلف REC میں تقرری کی ضرورت ہو گی۔ مزید معلومات کے لیے schools.nyc.gov/recs پر جائیں۔

مفت کھانے

کھانے کے مراکز نیو یارک کے تمام ان باشندوں کو کھانے فراہم کرتے ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ ہمارے کھانے کے زیادہ تر مراکز بھی کام کرنا جاری رکھیں گے۔ اس وقت کے دوران یا کسی بھی وقت کھانے کے قریب ترین مرکز کو تلاش کرنے کے لیے ذیل پر جائیں schools.nyc.gov/freemeals.

طبی احتیاط

ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں میں علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں اس کے باوجود یہ COVID-19 کو پھیلانے کے قابل ہیں اور اس وجہ سے نیو یارک شہر محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت (DOHMH) تجویز کرتا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں تو چہرے کو ڈھانپیں یا ایک ماسک پہنیں۔ چہرے کو ڈھانپنا آپ کو انفیکشن لگنے سے نہیں بچا سکتا ہے، لیکن یہ دیگر افراد کی مدد کر سکتا ہے۔ چہرے کو ڈھانپنے میں کوئی بھی ایسی چیز شامل ہو سکتی ہے جو ناک اور منہ کو ڈھانپنے بشمول دھول سے بچنے کا ماسک، اسکارف اور بینڈانا۔ طبی نگہداشت فراہم کنندگان کے ماسک کو استعمال نہ کریں کیونکہ ان کو طبی نگہداشت فراہم کرنے والے نظام کے لیے کام کرنے والے افراد کے لیے بچا کے رکھنا لازمی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس چہرے کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز ہے پھر بھی جتنا بھی ممکن ہو گھر پر رہیں اور دیگر افراد کے قریب جانے سے اجتناب کریں۔ چہرے کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ وائرس کے بارے میں مزید معلومات اور اکثر اوقات پوچھے جانے والے سوالات کے لیے برائے مہربانی nyc.gov/coronavirus پر جائیں۔

ہم پانچوں بروز میں ہر ایک بچے اور محکمہ تعلیم (DOE) کی برادری کے ہر بالغ فرد کی صحت، تحفظ اور اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرنے کی اولین ترجیحات کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گے۔ وقتاً فوقتاً آپ اور آپ کے بچے — اور تمام معلمین جو ان کو خدمات فراہم کرتے ہیں — ثابت کر رہے ہیں نیو یارک شہر کے پاس دنیا کے بہترین طلبا اور عملہ ہیں اور کوئی بھی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔

موسم بہار کے وقفے، RECs، مفت کھانوں اور بہت کچھ کے بارے میں کسی بھی سوالات کے لیے براہ کرم 311 پر رابطہ کریں یا schools.nyc.gov پر جائیں۔ ہمیشہ کی طرح، ریموٹ لرننگ اور آپ کے بچے کے لیے مسلسل معلومات کے لیے آپ کو آپ کے استاد، پرنسپل، اور اسکول کے دیگر افراد سے رابطہ کرنا چاہیے۔

بخلوص،



Richard A. Carranza

چانسلر
نیو یارک شہر محکمہ تعلیم